

[۱] دینِ اَلْقِیْمِ کیسے بارہ مہینوں کی گنتی ہے؟ اور

[۲] یومِ اَلْحِجِّ الاکبر کیا ہے؟ کے جوابات

سلسلہ وار موضوعاتی تراجم کی قسط نمبر ۱

آیاتِ مبارکہ 36/9 اور 4،3/9 کا مستند لغوی ترجمہ:

[۱] کیا دینِ اَلْقِیْمِ بارہ مہینوں کی گنتی ہے؟

روایتی ترجمہ میں "دینِ اَلْقِیْمِ" کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ "۱۲ مہینوں کی گنتی" دینِ اَلْقِیْمِ ہے، جن میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں؟؟؟

ظاہر ہے کہ دینِ اَلْقِیْمِ کی یہ تعریف انتہائی لغو اور مضحکہ خیز ہے۔ دین ایک ضابطہٴ حیات کو کہتے ہیں، صرف ۱۲ مہینوں کی گنتی کو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس اہم آیت کے علمی اور شعوری ترجمے کی ضرورت محسوس کی گئی جو قرآن کے حقیقی پیغام و نظریے کے مطابق ہو اور جدید تعلیم یافتہ ذہن میں آسانی سے داخل ہو جائے۔ درخواست ہے کہ اس ترجمہ کو قدیمی روایتی ترجمے کے تقابل و موازنے کے ساتھ مطالعہ کریں۔

تو اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں۔

سورة التوبة: ۳۶

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔

در حقیقت، کائنات کی تخلیق کی ابتدا ہی سے [يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ] اللہ تعالیٰ نے یہ قانون [فِي كِتَابِ اللَّهِ] بنا دیا تھا کہ اس کی پسندیدہ [عِنْدَ اللَّهِ] انسانی زندگی کی مجوزہ اور قابلِ لحاظ صورتِ حالات [عِدَّةَ الشُّهُورِ] وہ ہوگی جو کہ ایک نہایت قابلِ تعریف اور قابلِ رشک [اثْنَا] مربوط انسانی معاشرے کی صورت یا کیفیت [عَشَرَ شَهْرًا] ہوتی ہے۔ اور اس

معاشرے میں جو سب سے زیادہ شفقت اور رحم دلی رکھنے والے [رَبْعَةَ] ہوں گے وہ سب سے محترم [حُرْمٌ] سمجھے جائیں گے۔
یہی واحد پابند اور مستحکم [الْقِيَمُ] طرز زندگی یا ضابطہ حیات [الِدِينُ] ہے۔

پس، اس تناظر میں تمہیں ہدایت دی جاتی ہے کہ اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کی حق تلفی نہ کرو۔ بلکہ اپنی پوری توجہ غیر قرآنی نظریات رکھنے والوں [الْمُشْرِكِينَ] کا مقابلہ کرنے کی جانب مرکوز کرو بالکل ایسے جیسے کہ وہ تمہارے ساتھ اپنی پوری قوت کے ساتھ محاذ آرائی پر مصر ہیں۔ تاہم، یہ امر ہمیشہ پیش نظر رہے کہ اللہ کی مدد انہی کے شامل حال رہتی ہے جو اس کے احکامات کی پوری نگہداشت کرتے ہیں۔

اب یہی ترجمہ رواں انداز میں:-

در حقیقت، کائنات کی تخلیق کی ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ اس کی پسندیدہ انسانی زندگی کی مجوزہ اور قابل لحاظ صورتِ حالات وہ ہوگی جو کہ ایک نہایت قابل تعریف اور قابل رشک مربوط انسانی معاشرے کی صورت یا کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس معاشرے میں جو سب سے زیادہ شفقت اور رحم دلی رکھنے والے ہوں گے وہ سب سے محترم سمجھے جائیں گے۔ یہی واحد پابند اور مستحکم طرز زندگی یا ضابطہ حیات ہے۔

پس، اس تناظر میں تمہیں ہدایت دی جاتی ہے کہ اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کی حق تلفی نہ کرو۔ بلکہ اپنی پوری توجہ غیر قرآنی نظریات رکھنے والوں کا مقابلہ کرنے کی جانب مرکوز کرو، بالکل ایسے جیسے کہ وہ تمہارے ساتھ اپنی پوری قوت کے ساتھ محاذ آرائی پر مصر ہیں۔ تاہم، یہ امر ہمیشہ پیش نظر رہے کہ اللہ کی مدد انہی کے شامل حال رہتی ہے جو اس کے احکامات کی پوری نگہداشت کرتے ہیں۔

اب بریکٹوں میں دیے گئے مشکل الفاظ کا مستند عربی لغات سے ترجمہ :-

[يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ] : تخلیق کائنات کی ابتدا؛ وہ وقت جب اللہ نے کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا۔

[فِي كِتَابِ اللَّهِ] : اللہ کا قانون؛ اللہ کی مرضی کی رو سے؛ اللہ کا مقرر کردہ۔

[عِنْدَ اللَّهِ] : اللہ کے ہاں؛ اللہ کا پسندیدہ؛ اللہ کا منظور کردہ۔

[عِدَّةَ الشُّهُورِ] : وہ صورتِ حالات [شہور] جو تجویز کردہ ہو، قابل ترجیح، قابل شمار ہو۔

[إِنَّا] : انتہائی قابل تعریف، قابل ستائش؛ ثنا = تعریف۔

[عَشْرَ شَهْرًا]: عشر: ایک مربوط معاشرے کی [شَهْرًا]: کیفیت، صورت، حالت۔
 [أَرْبَعَةَ]: ر ب ع : وسیع المعانی مادہ ہے۔ اچھی حالت، خوشحالی، اوپر اٹھانا، شفقت، محبت، رحم، شریفانہ سلوک کرنا، چوتھا
 حصہ، مڈل کلاس، درمیانہ سائز، تیزی سے بھر دینا، فراوانی پیدا کر دینا، وغیرہ، وغیرہ۔
 [حُرْمٌ]: ممنوع، پابند، محترم، معزز
 [الْقِيَمُ]: مستحکم، پائیدار
 [الدِّينُ]: طرز حیات، ضابطہ حیات
 [المُشْرِكِينَ]: غیر اللہ کے نظریات پر چلنے والے، اللہ کے احکام کے ساتھ شرک کرنے والے۔

اور اب انگلش زبان میں آیت مبارکہ کا ترجمہ:-

Indeed, since the hour He unfolded the process of creation of the Universe, Allah had made it mandatory (fi kitaab Allah) that the prescribed and reckonable (iddata) living conditions (shuhoor) as approved by him ('indallah) will be the state of a highly praiseworthy and Admirable (athnaa'), intimate human community ('ashara); and in its composition (min-ha) the segment possessing the attributes of deeper affection and utmost compassion (arba'atun) will be regarded as the respected ones (hurumun). That alone is prescribed as the most sustainable, ideal (qayyam) discipline of life (Deen).

Hence in such circumstances, you are ordained not to be cruel by violating your own people's rights in the community. Instead, concentrate fully in fighting the polytheists just like they are intent on fighting against you with their full might. However, keep always in mind that in a confrontation Allah sides with those taking full cognizance of His commandments.

[۲] حج الاکبر کیا ہے؟

آپ نے حج الاکبر کے متعلق سوال پوچھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ سوال کے پیچھے چھپی ہوئی آپ کی اصل الجھن میں اچھی طرح جاننا ہوں۔ آپ حج کے نئے تحقیقی معانی کے بارے میں اب بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے آپ نے یادگیر غیر مطمئن یا غیر

متفق ساتھیوں نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ بہر حال میرا فرض منصبی نکتہ چینی نہیں بلکہ ایک سیر حاصل جواب دینا ہے، اور میں اپنا یہ فرض بحسن و خوبی ادا کروں گا۔

جواب: یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ۱۳ اور ۴ کا معاملہ ہے، جو یہاں مندرج کر دی جاتی ہیں :

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عِزٌّ مُّعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ (۳) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهَرُوا عَلَيْكُمْ أَوْ فَاتَمَّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

اس کا سیر حاصل ترجمہ پیش خدمت ہے جس میں سیاق و سباق کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے جو مشرکین کے ساتھ عہد ناموں سے متعلق ہے، اور الفاظ کے حقیقی معانی کا بھی :-

اللہ اور رسول کی جانب سے [مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ] تمام انسانیت کے لیے، اللہ کے دین کی اتمام حجت [الْحَجِّ] کے لیے عطا کیے گئے اس عظیم موقع [يَوْمَ الْأَكْبَرِ] پر یہ اعلان عام [أَذَانٌ] کیا جاتا ہے کہ اب اللہ اور اس کا رسول مشرکین کی جانب سے عائد تمام اخلاقی اور تزویراتی ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے اب اگر تم صحیح راستے کی جانب لوٹ آتے ہو [تُبْتُمْ] [تو وہ تمہارے لیے خیر، یعنی امن اور خوشحالی کا باعث ہو گا۔ لیکن اگر تم اب بھی اس جانب سے اپنا منہ موڑ لیتے ہو، تو یہ اچھی طرح جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ اے نبی، حق کا انکار کرنے والوں کو دردناک سزا کی نوید دے دو، سوائے ان مشرکین کے جن کے ساتھ تم نے عہد نامے کیے ہیں، اور جنہوں نے بعد ازاں تمہارے ساتھ ان عہد ناموں کی پابندی میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اور نہ ہی ان میں سے کسی نے تم پر فوقیت یا غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تم اب بھی پابند ہو کہ اپنے عہد نامہ کی مدت کو پورا کرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ قوانین کی پاسداری و نگہداشت کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔